

عیدالضحیٰ پر انگلش بولیں

Eid Mubarak!	عید مبارک!
Let's prepare for the Qurbani.	آؤ قربانی کی تیاری کریں۔
Clean the Qurbani animal properly.	قربانی کے جانور کو اچھی طرح صاف کریں۔
How much meat did your Qurbani animal yield?	آپ کے قربانی کے جانور کا کتنا گوشت نکلا؟
We should distribute Qurbani meat to poor relatives.	ہمیں قربانی کا گوشت غریب رشتہ داروں میں تقسیم کرنا چاہیے۔
May Allah accept our good deeds.	اللہ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔
Have you planned your Eid-ul-Adha tour?	کیا آپ نے عید الاضحیٰ پر کہیں جانے کا پروگرام بنایا ہے؟
Visit the cattle market to buy animals.	جانور خریدنے کے لیے مویشی منڈی چلیں۔
We should make dua for the Ummah.	ہمیں امت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔
May God bless us with peace this Eid.	اللہ اس عید پر امن و سکون سے نوازے۔
We should remember the sacrifice of Prophet Ibrahim (AS) on this Eid-ul-Adha.	ہمیں اس عید الاضحیٰ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد رکھنا چاہیے۔
We should spend time with our family and friends on Eid-ul-Adha.	ہمیں عید الاضحیٰ پر اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے۔
Are you going to wear new clothes on Eid-ul-Adha?	کیا آپ عید الاضحیٰ پر نئے کپڑے پہننے جا رہے ہیں؟
Would you like to make a delicious meal this Eid?	کیا آپ اس عید پر مزیدار کھانا بنانا چاہیں گے؟
We should share the joy of Eid-ul-Adha with our poor relatives.	ہمیں اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ عید الاضحیٰ کی خوشیاں بانٹنی چاہئیں۔

عیدالضحیٰ پر انگلش بولیں

We should perform Eid-ul-Adha prayers on time.	ہمیں عیدالضحیٰ کی نماز وقت پر ادا کرنی چاہیے۔
Let's give gifts to children on Eid-ul-Adha.	آئیے عیدالضحیٰ پر بچوں کو تحفے دیں۔
We should visit our relatives on Eid-ul-Adha.	ہمیں عیدالضحیٰ کے موقع پر اپنے رشتہ داروں سے ملنے جانا چاہیے۔
Let's recite Surah al-Kauthar during these holy days.	آئیے ان مقدس ایام میں سورہ کوثر کی تلاوت کریں۔
We should humanely slaughter the animal.	ہمیں انسانوں کی طرح جانور ذبح کرنا چاہیے۔
Don't waste any part of the Qurbani animal.	قربانی کے جانور کا کوئی حصہ ضائع نہ کریں۔
Are we distributing Qurbani meat to our neighbors?	کیا ہم اپنے پڑوسیوں میں قربانی کا گوشت تقسیم کر رہے ہیں؟
We should pray for the safety of our country.	ہمیں اپنے ملک کی سلامتی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔
Are you inviting friends for an Eid-ul-Adha dinner?	کیا آپ دوستوں کو عیدالضحیٰ کے کھانے پر مدعو کر رہے ہیں؟
We should follow Islamic guidelines for Qurbani.	ہمیں قربانی کے لیے اسلامی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔
Are we performing Qurbani on the correct day?	کیا ہم صحیح دن قربانی کر رہے ہیں؟
We should remember to give Sadaqah this Eid.	ہمیں اس عید پر صدقہ دینا یاد رکھنا چاہیے۔
We should recite the Takbeer loudly during these days.	ان دنوں میں بلند آواز سے تکبیریں پڑھیں۔
Did you buy your Qurbani animal yet?	کیا آپ نے اپنا قربانی کا جانور ابھی تک خریدا ہے؟
Have you decided which charity to donate to this Eid-ul-Adha?	کیا آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس عیدالضحیٰ پر کون سا صدقہ دینا ہے؟

عیدالضحیٰ پر انگلش بولیں

We should slaughter the animal in a clean place.	ہمیں جانور کو صاف جگہ پر ذبح کرنا چاہیے۔
How's your Qurbani animal looking?	آپ کا قربانی کا جانور کیسا ہے؟
Is your animal healthy?	کیا آپ کا جانور صحت مند ہے؟
Have we enough space for the Qurbani animal?	کیا ہمارے پاس قربانی کے جانور کے لیے کافی جگہ ہے؟
Have we the proper equipment for Qurbani?	کیا ہمارے پاس قربانی کا مناسب سامان ہے؟
Have we enough people to help with the Qurbani?	کیا ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں کہ قربانی کی مدد کر سکیں؟
We should give the Qurbani meat to those who are deserving.	ہمیں قربانی کا گوشت مستحقین کو دینا چاہیے۔
We should give extra charity on Eid-ul-Adha.	ہمیں عید الاضحیٰ پر اضافی صدقہ دینا چاہیے۔
How's your Eid-ul-Adha preparation going?	آپ کی عید الاضحیٰ کی تیاریاں کیسی جا رہی ہیں؟
We should give special attention to the needy.	ہمیں ضرورت مندوں پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔
Did you buy new clothes for Eid-ul-Adha?	کیا آپ نے عید الاضحیٰ کے لیے نئے کپڑے خریدے ہیں؟
We should give extra time for worship on Eid-ul-Adha.	عید الاضحیٰ پر عبادت کے لیے اضافی وقت دینا چاہیے۔
We should avoid excessive spending on Eid-ul-Adha.	ہمیں عید الاضحیٰ پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔
We should show kindness to our neighbors on Eid-ul-Adha.	ہمیں عید الاضحیٰ کے موقع پر پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔
We should offer Eid-ul-Adha prayers in the congregation.	ہمیں عید الاضحیٰ کی نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے۔